

اندر انسانیت کی فلاج و ترقی اور خوش حالی کا بڑا سامان رکھتی ہے، اس کے باوجود انسانوں کی بہت بڑی اکثریت فی الوقت ان فوائد سے محروم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی نظام غیر منصفانہ ہے۔ ایسی دنیا میں عالمگیریت کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا کہ کمزوروں کو مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑے اور طاقت وردوں کو مزید فائدے حاصل ہوتے رہیں۔ یہ مسلسل احتصال نہ صرف انسانیت کے مصائب اور مشکلات کو بڑھاتے چلے جانے کا سبب ہے اور اس کے نتیجے میں بین الاقوامی تصادم کا خطہ بڑھ رہا ہے بلکہ درحقیقت یہ تصادم شروع ہو چکا ہے۔ سماجی اقتصادی عدل، عالمی امن کے لیے لازمی ضرورت ہے۔ لہذا عالمگیریت کی موجودہ ہمہ گیراہر کو لازماً ان بنیادی اخلاقی اصولوں کے تابع کیا جانا چاہیے جن کی تعلیم مختلف مذاہب خصوصاً اسلام میں دی گئی ہے۔

اس خاص شمارہ کی تیاری کے لیے جن ساتھیوں کا شکر یہ خاص طور پر واجب ہے ان میں جناب ثروت جمال اصمی، متقین الرحمن، فرقان کا کریشان ہیں جن کا تعاون مختلف مراحل میں حاصل رہا۔

مدیران

## \* بین الاقوامی مالیاتی استحکام: اسلامی مالیات کا کردار\*

محمد عمر چھاپرا

سود کے بارے میں بحث مباحثہ ایسی چیز ہے جس کی جزویں تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب میں بھی بہت گہری ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ محض اسلام ہی نہیں، بلکہ ہندو مت، یہودیت اور عہدیت سمیت کئی دوسرے بڑلے مذاہب نے بھی سود کو منوع تھہرایا ہے؟ حتیٰ کہ بعض فلسفیوں مثلاً سفراط نے بھی سود کے جواز پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اس کے باوجود آج کے دور میں سود بہت بڑے پیانے پر جاری و ساری ہے، اس لیے یہ بات فطری ہے کہ لوگ ان عظیم مذاہب میں سود کے منوع تھہرائے جانے کے عقلی اسباب کے بارے میں پوچھیں۔ اس کا جواب محترم یہ ہے کہ یہ انسانیت کوئی مختلف طریقوں سے نقصان پہنچاتا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی نظام میں پائے جانے والے عدم استحکام اور ناہمواریوں کا بڑی حد تک یہی ذمہ دار ہے۔ اور ہماری اس گفتگو کا محور یہی ہے۔

یہ بات عام طور پر معروف ہے کہ پچھلے تین سے چار عشروں کے دوران دنیا کو متعدد مالیاتی بحرانوں کا تجربہ ہوا ہے۔ اس کا آغاز ۱۹۷۱ء میں ڈالر کی قدر میں کمی کے جانے سے چند برس قبل ہوا جب بیرونی زر مبادلہ کے بازار انتہائی غیر مستحکم ہو گئے تھے۔ یہ بحران ڈالر کی قدر میں دوبار کی اور یہیں الاقوامی مالیاتی فنڈ کے آرٹیکل آف ایگرینٹ میں ترمیم کے باوجود جاری رہا۔ اکتوبر ۱۹۸۷ء میں

\* یہ مقالہ ۲۰۰۵ء میں لکھا گیا تھا اور اس کا بنیادی موضوع آنے والے عشروں میں رونما ہوتے نظر آنے والے بڑے مالیاتی بحران تھے۔ دنیا ان دنوں اپنے آپ کو ایک نئے بحران میں گھرا پائی ہے، بالخصوص امریکا کی مالیاتی منڈیوں میں، جسے ۱۹۳۰ء کی عظیم کساد بازاری کے بعد بدترین قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بحران کی جزویں ان ہی سابق بحرانوں کی جزوں کی مانند ہیں جن کی نشان دہی ڈاکٹر چھاپرا نے اس مقالے میں کی ہے۔ اخذ کردہ تاریخ بھی دیے ہیں جن کی طرف ڈاکٹر چھاپرا نے اشارہ کیا ہے۔ نوٹی انعام یافت جوزف استنگلر کے الفاظ میں موجودہ بحران مالیاتی شبے میں ”بد دویاتی کا پھل“ ہے۔ (گارڈن، ۱۲، اکتوبر ۲۰۰۸ء)۔ مدیران

امریکا کا اسٹاک مارکیٹ تباہ ہو گیا۔ ۱۹۹۱ء میں جاپان کے اسٹاک مارکیٹ کو زبردست بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ ۱۹۹۲-۹۳ء میں یورپی شرح مبادلہ کا نظام (ERM) ٹوٹ پھوٹ سے دوچار ہوا۔ ۱۹۹۷ء میں مشرقی ایشیا کا بحران سامنے آیا۔ ۱۹۹۸ء میں روپی بحران رونما ہوا۔ امریکا نے ۱۹۹۸ء میں فنڈز کے بحران کا سامنا کیا، جبکہ ۱۹۹۹ء میں بر ایzel کو شرح مبادلہ کے بحران سے سابقہ پڑا۔ یہ ان بحرانوں میں سے محض چند ہیں جن سے اس عرصے میں دنیا دوچار ہوئی۔ ان سب نے بے چینی کا یہ احساس پیدا کیا کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام میں کوئی چیز بنیادی طور پر غلط ہے۔ لہذا ایک ”نئی تغیر“ وقت کی ضرورت ہے۔

نئی تغیر کا کوئی نقشہ اس وقت تک تیار نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ ان بحرانوں کے اسباب یا حصی سب کا تعین نہ کر لیا جائے۔ یہ کہنا کہ ان بحرانوں کا ایک ہی سبب ہے، انتہائی سادگی ہوگی۔ اس کے باوجود یہ کہنا خلاف حقیقت نہیں ہوگا کہ اس کا ایک بڑا سبب، ”تمام اسباب کا ایک سبب“، ضرور ہے۔ اس گفتگو کا مقصد اس ”امُ الاسباب“ سبب کی نشان دہی کی کوشش ہے۔

## بحران کی جڑیں

کئی ماہرین معاشریات اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رکھے ہیں کہ یہ بحران کیوں واقع ہوئے۔ بعض نے سمجھا کہ یہ بحران ایسے ماحول میں مالیاتی بر لائزنس کی وجہ سے واقع ہو رہے ہیں جس میں غیر مناسب قوانین اور درست نگرانی نہ ہونے کے باعث بہت سے ملکوں کے مالیاتی نظام محفوظ نہیں ہیں۔ جبکہ کچھ دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ حصی وجہ، اتنا ٹوں کی قیتوں میں سے بازی کے بلبلے کا پھٹ جانا ہے جو ابتداء درمیانی مالیاتی واسطوں کی کثرت کی بناء پر رونما ہوا تھا۔<sup>۱</sup> یہ دلیل بھی دی جاتی رہی ہے کہ بحران کی بنیادی وجہ قرضوں اور ان کی مدت کی تنگی میں عدم مطابقت تھی۔ یعنی مختصر مدت کے بین الاقوامی قرضے، مختصر مدت کے اتنا ٹوں سے کہیں زیادہ تھے۔<sup>۲</sup> اس موضوع پر دستیاب لٹریچر ان کے علاوہ کئی دوسری وجہ کی نشان دہی بھی کرتا ہے۔

ان تمام عوامل کا اگرچہ ان بھروسے کچھ حصہ رہا ہے، تاہم حقیقی سبب یا اٹم الاسباب پر اب تک کوئی اتفاق رائے نظر نہیں آتا۔ اس بنیادی سبب کو درست طور پر نہ سمجھے جانے کی بنا پر مقنزع علاج تجویز کیے جاتے رہے ہیں۔ اس چیز نے اصلاح کے کسی موثر پروگرام کے وضع کیے جانے کو مشکل بنادیا ہے۔ چنانچہ تعمیر کے لیے دی گئی تجویز میں، روایتی دانش کے بنیادی اصولوں، اور پائیدار شرح مبادلہ کے ساتھ مستحکم میکرو اکنامک پالیسیوں پر زور، مناسب قواعد و ضوابط، بہتر غفاری اور زیادہ شفافیت وغیرہ کے سوا کچھ اور نہیں پیش کیا جا سکا ہے۔<sup>۲</sup> یہ اصول بلاشبہ ناگزیر ہیں، کیونکہ آخری تجویز میں، تمام بھروسے کی جزوی غیر صحت مند زری، مالیاتی اور شرح مبادلہ کی پالیسیوں میں ہیں۔ لہذا کسی نے کبھی ان اصولوں کے دیانت داری سے نفاذ کی ضرورت سے انکار نہیں کیا۔ اس کے باوجود یہ اصول پامال کیے جاتے رہے اور کیے جارہے ہیں۔

ان اصولوں کی مسلسل خلاف ورزی ذہن میں متعدد سوالات ابھارتی ہے۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے میکرو اکنامکس کی ان ناہمواریوں، زر مبادلہ کی ناپائیدار شرحوں، اور غیر صحت مند مالیاتی سرگرمیوں کے جاری رہنے کو اتنی طویل مدت سے ممکن بنارکھا ہے؟ جبکہ ہر شخص موقع رکھتا ہے کہ روایتی دانش کے اصولوں کے دیانت داری سے نفاذ کو یقینی بنائے، مارکیٹ ڈپلین کو عمومی طریقے سے ان خرابیوں کی اصلاح کے قابل ہونا چاہیے۔ تاہم یہ بالکل عیا ہے کہ مارکیٹ ڈپلین، سرکاری شعبے کو میکرو اکنامکس کی ناہمواریوں اور نجی شعبے کو وسائل سے بڑھ کر زندگی بسر کرنے کے رویے سے بچانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا یہ ہے وہ سبب جو بعض لوگوں کے لیے بے حد وسائل کے حصول کو ممکن بناتا ہے، جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شے بازی کے بلبلوں کے پھٹ جانے کی حد تک جا پہنچنے کو ممکن بنانے کا بڑا عامل یہی ہے؟ اور کیا ایسا اس ناکافی مارکیٹ ڈپلین کی وجہ سے ہے؟

ایک دوسرا متعلقہ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ بعض ایسے ملک جنہوں نے محفوظ اور مستحکم زری اور مالیاتی پالیسیاں اختیار کر کھی تھیں، انہیں بھی بھروسے کا سامنا کرنا پڑا۔ ۱۹۹۰ء کی دہائی کے آغاز میں شرح مبادلہ کے نظام کے بھرمان نے اس نظر میں کچھ تغیر کیا کہ بیرونی زر مبادلہ کے بازار کے بھرمان،

غیر منظم زری اور مالیاتی پالیسیوں سے پھوٹتے ہیں۔ اس بحران کا شکار ہونے والے بہت سے ملکوں نے زر کے غیر ضروری پھیلاو کی پالیسیاں نہیں اپنارکھی تھیں۔ ۵ حتیٰ کہ مشرقی ایشیا کے ملک بھی قابل فہم طور پر غیر صحت مند میکرو اکنامک پالیسیوں کے کھانچے میں فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک تیرسا اور یکساں طور پر اہم سوال یہ ہے کہ: آخر بظاہر نہایت منضبط مالیاتی نظام رکھنے والے امریکا اور برطانیہ جیسے ملکوں کو بھی بحرانوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟

ایک اور قریبی طور پر متعلق سوال یہ ہے کہ کیا بہتر قواعد و ضوابط، انگرانی اور شفافیت بجائے خود ایسے بحرانوں سے بچاؤ میں مدد دے سکتے ہیں؟

### ناکافی مارکیٹ ڈپلین: کیا یہ بنیادی سبب ہے؟

ان سوالوں کا جواب، ان داخلی و جوہات پر لگاہ ڈالے بغیر نہیں دیا جاسکتا جوئی تعمیر کے بنیادی اصولوں کے نفاذ میں ناکامی کا باعث نہیں اگرچہ یہ اصول روایتی داش کا حصہ ہیں۔ اس کی پہلی وجہ، جو نظر آتی ہے، روایتی مالیاتی نظام میں مارکیٹ ڈپلین کا ناکافی ہونا ہے۔ بینکوں میں رقم رکھنے والوں اور بینکاروں کے شیئر کو کاروبار میں فقصان کے خطرے میں شرکت کی شرط کے ساتھ لگانے کے بجائے، یہ نظام انہیں ان کی رقم یا قرضوں کی سود سمیت واپسی کی یقین دہانی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے رقم رکھنے والے لوگ، مالیاتی اداروں کی مضبوطی کے معاملے میں کم ہی دلچسپی لیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے بینک عملاء کسی بھی مقصد حتیٰ کہ سے بازی کے لیے بھی مالیاتی سہولت کی فراہمی میں صانتوں کی بیساکھیوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ تاہم صانتیں اچھی طرح غور و خوض کے بعد تیار کیے گئے منصوبوں میں کی جانے والی سرمایہ کاری کا مقابل نہیں ہو سکتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے صانتوں کی قدر بھی ان ہی عوامل سے گھٹ سکتی ہے جو قرضدار کی رقم کی واپسی کی الہیت میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح مطلوبہ ڈپلین کے نفاذ کے لیے مارکیٹ کی صلاحیت میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے اور یوں قرضوں کے مجموعی جم میں غیر صحت مند پھیلاو، حد سے زیادہ وسائل کی فراہمی، اور وسائل سے بڑھ کر زندگی بسر کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس نظام کا یہ بحاجت، جیکس کے نظام کے قرضوں کی مالیات کے حق میں ہونے کی وجہ مغرب اور اسلام، ۲۰۱۱ء کا دوسرا شمارہ

سے، مزید تقویت پاتا ہے، کیونکہ ڈی یڈن پر نیکس لگتا ہے جبکہ سودی اور نیکیوں کے ساتھ، نیکس سے مشتمل خرچ کا برداشت و روار کھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔

نظام کا ناکافی مارکیٹ ڈپلین، اس بناء پر، کوئی نئی چیز بہر حال نہیں ہے۔ روایتی مالیاتی نظام کی تشکیل اور پھیلاو کی پوری مدت میں یہ موجود رہا ہے۔ لہذا پوچھا جاسکتا ہے کہ پچھلے دو شرروں میں اس معاملے میں زیادہ تیزی کیوں رہی ہے؟ جس چیز نے یہ فرق پیدا کیا وہ رقوم کے جنم میں اضافہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والی تیز رفاقت معاشری ترقی، اطلاعات اور مواصلات کے طریقوں میں انقلاب، اور یہ ورنی زر مبادلہ کی منڈیوں کی لبر لائزنس کے نتیجے میں واقع ہوا۔ تاہم یہ پیش رفت، انسانی ترقی کا اظہار ہے، اور بخراں کا الزام، اس پر نہیں تھوپا جاسکتا۔ جب رقوم کا جنم کم ہوتا تھا، ان کی آزادانہ گردش پر پابندیاں تھیں، زر مبادلہ کی شرطیں متعین تھیں، تو ناکافی مارکیٹ ڈپلین کوئی خرابی پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مگر آج کیفیت مختلف ہے۔

اس نئی ترقیوں کو لازام دینے کے بجائے، زیادہ مناسب ہو گا کہ میں الاقوامی مالیاتی نظام کی فالٹ لائیں کی توجہ اور احتیاط سے جانچ پڑتاں کی جائے جو مارکیٹ ڈپلین کے نقص کا نتیجہ ہے اور جس کا سبب خطرے میں واضح طور پر شرکت کے اصول کی عدم موجودگی ہے۔ یہی فالٹ لائیں ہے جو رقم فراہم کرنے والے سرمایہ دار کے لیے حد سے زیادہ قرضے دینے اور معاشری ماحول میں خفیف ترین تبدیلی پر بھی رقم کی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ممکن بناتی ہے۔ اس طرح شرح سودا اور امثالوں کی قیمت میں انتہاء درجے کی فراری کیفیت داخل ہو جاتی ہے۔ یہ چیز سرمایہ کاری کے بازار میں بے اعتدالی پیدا کرتی ہے لہذا اس کی جانب سے جو اس سرمایہ کی تشکیل کی حوصلہ لشکنی کی جاتی ہے جس سے وسائل کے غلط طور پر مختص کیے جانے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے قرض لینے والوں اور دینے والوں کو، قرض کے بازار کے طویل سرے سے محصر رہتے تک، ایک ہی لامگی سے ہانکا جاتا ہے۔ نتیجتاً محصر مدت کے انتہائی طاقتور قرضوں میں زبردست اضافہ ہوا جس نے معاشری اور مالیاتی عدم استحکام کو بڑھا دیا۔ آئی ایم ایف مسی ۱۹۹۸ء کے اپنے ”ورلڈ اکنائک آئٹ

لک" میں اس حقیقت کا اعتراف کرچکا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مختصرمدت کے بلند سطحوں کے قرضوں والے ملکوں کے لیے "داخلی اور بیرونی صدموں کے مقابلے میں خاص طور پر زیادہ غیر محفوظ ہونے اور اس بناء پر مالیاتی بحران کا شکار ہونے کا امکان ہے۔"

یہاں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ قرضوں، خصوصاً مختصرمدت کے قرضوں کی سطح بلند ہونے سے عدم استحکام کے بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہات میں سے ایک، قرضوں کی بہولت دستیابی، میکرو اکناؤنک ناہمواریوں اور مالیاتی عدم استحکام کے درمیان قریبی تعلق ہے۔ قرض کی بہولت دستیابی، سرکاری شبے کے لیے زیادہ قرضوں کا حصول ممکن بناتی ہے۔ نجی شبے بھی اپنے وسائل سے بڑھ کر جینے اور بہت زیادہ قرضے حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر قرضے پیداواری طور پر استعمال نہ کیے جائیں تو قرضوں کے سود اور اصل کی ادائیگی کی صلاحیت قرضوں کے تناسب سے نہیں بڑھتی۔ اس کے نتیجے میں مالیاتی ابتری اور قرضوں کا بحران رونما ہوتا ہے۔ مختصرمدت کے قرضوں پر انحصار چتنا زیادہ ہو گا، اور یورپ تجھ تھنا بلند ہو گا، بحران اتنا ہی شدید ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک قرض دینے والے کا تعلق ہے تو مختصرمدت کا قرض آسانی سے منسون کیا جاسکتا ہے، لیکن قرضدار کی طرف سے اس کی واپسی مشکل ہوتی ہے۔ ایسا اس صورت میں خاص طور پر ہوتا ہے جب قرض کے طور پر لی گئی رقم، نقصان کا سبب بننے والے قیاسی اثاثوں، یاد میانی یا طویل مدت کی سرمایہ کاری میں بارا اوری کی لمبی مدت کے ساتھ پھنس جائے۔

اگرچہ ممکن ہے کہ مختصرمدت کے قرض پر مشتمل ایک معقول رقم کے معاملے میں، جو سرمایہ کاری یا حقیقی اشیاء و خدمات کی فروخت کے لیے استعمال کی جائے، بیانی طور پر کوئی قباحت نہ ہو، تاہم حد سے زیادہ رقم دستیاب ہو تو اس کے غیر پیداواری مصارف کے ساتھ ساتھ بیرونی زر مبادله کے شے اور، اسٹاک اور پاپلی مارکیٹوں کی جانب منتقل ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ یورپین سٹریل بینک کے صدر Jean-Claude Trichet نے بالکل درست نشان دہی کی ہے کہ "ایک بلیے کے پروان چڑھنے کے امکانات اس صورت میں زیادہ ہوتے ہیں جب سرمایہ کارادھار کی رقم سرمایہ کاری میں لگا

کراپی پوزیشن مضبوط کرنے کی سہولت رکھتے ہیں۔<sup>۸</sup>

دلائل کو زیادہ واضح کرنے کے لیے میں چار مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو یہ ہیں:

۱۔ مشرقی ایشیا کا بحران

۲۔ طویل مدتی کی پیش میجنت کے حفاظتی فنڈ کا انہدام

۳۔ بیرونی زر مبادلہ کی منڈی کا عدم استحکام

۴۔ امریکی معیشت کی نہایات ناہمواریاں

ان مثالوں سے یہ واضح کرنے میں مدد ملے گی کہ قرضوں کی آسان دستیابی اور اس کے نتیجے میں قرضوں، خصوصاً مختصر مدت کے قرضوں میں تیزی سے اضافہ، فناشل مارکیٹوں میں خطرے میں حصہ داری کے نہ ہونے کی وجہ سے جنم لینے والے ناکافی مارکیٹ ڈپلین کا نتیجہ کیوں ہیں۔

**مشرقی ایشیا کا بحران:** ایشیان نائیگر کھلانے والے ممالک، گلوبل معیشت کی کامیابیوں کی روشن مثالوں میں سے تصور کیے جاتے تھے۔ ان کی گھریلو بچتوں اور سرمایہ کاری کی شرطیں بہت بلند جگہ افراط از رکی شرح پست تھیں۔ وہ محنت مند مالیاتی پالیسیوں پر کار بند تھے جو بہت سے ترقی پذیر ملکوں کے لیے قابل رشک ہو سکتی تھیں۔ چونکہ مالیاتی عدم استحکام کے بڑے اسباب میں سے ایک حکومت کے خسارے کو بونڈز یا میٹسین سودو والے انانشوں سے پورا کیا جانا ہے،<sup>۹</sup> اس لیے انہیں، ان ملکوں کے مالیاتی نظم و ضبط کو ایسے عدم استحکام سے بچانے میں مدد گارثا ہوت ہونا چاہیے تھا۔ تاہم ایسا نہیں ہوا۔ ان ملکوں میں مقامی بینکوں کی جانب سے، نجی شعبے کو مقامی کرنی میں بینک قرضوں کی فراہمی میں تیز رفتار اضافہ ہوا۔ اس کی بنیاد مقامی بینکوں کو بیرونی ملکوں سے بیرونی کرنی میں آسانی سے ملنے والے مختصر مدت کے قرضے تھے۔ اس چیز نے اشک اور پر اپرٹی مارکیٹوں میں شے کی بنیاد پر زبردست گرماگری پیدا کر دی، جس نے غیر معقول تیزی کے رجحان کو جنم دیا اور انانشوں کی قیتوں کو ان کی حقیقی قدر سے کہیں زیادہ بڑھادیا۔

بیرون ملک سے زر مبادله کے اس سیالاب نے مرکزی بینکوں کو اس قابل بنادیا کہ وہ زر مبادله کی شرحوں کو کھونئے سے باندھ دیں۔ یہ چیز بیرونی بینکوں کو قرضوں کی فراہمی کے لیے درکار یقین دہانی مہیا کرنے میں مددگار بنتی۔ سود کی نسبتاً بلند مقامی شرطیں، امثالوں کی منڈی میں جاری تیزی کی بناء پر مزید سرمایہ کاری کے لیے بیرون ملک سے بیرونی کرنی میں رقوم کی مزید آمد کا سبب نہیں۔ چنانچہ پانچ شدید طور پر متاثرہ ملکوں (جنوبی کوریا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملاکشیا اور فلپائن) میں تقریباً ۲۷ فی صد سرمائے کا بہاؤ مختصر مدت کے قرضوں پر مشتمل تھا، ۱۰ یہاں قرضوں کی مدت کی تکمیل اور کرنی میں شدید عدم مطابقت تھی۔ اس چیز نے، منظور نظر کمپنیوں کو بھاری قرضے فراہم کرنے کے لیے، سیاسی کرپشن اور بینکاری کے غیر موثق اعادہ و ضوابط سے ملی بھگت کر لی اور ان اسباب نے تمام حدود کی پامالی کے لیے سازگار ماحول مہیا کر دیا۔

یوں ان کمپنیوں کی تیز رفتار ترقی روایتی بینکوں سے رقم کی آسان دستیابی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ ایسا نظام جس میں نفع اور نقصان میں شرکت نہ پائی جاتی ہو، اس میں تجارتی بینکوں پر بالعموم منصوبوں کی گہری چھان بین کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ پوشیدہ خطرات کا پوری طرح اندازہ لگانے کی کوشش کے بغیر محض خلافت کی بنیاد پر قرض کا اجراء پرانی غلطی کا اعادہ ہے۔ نقصان میں شرکت بینکوں کو، زیادہ احتیاط اور توجہ سے، منصوبوں کو پر کھنے کے حوالے سے ذمہ دار بنا سکتی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہوں کہ منصوبے بہت زیادہ پر خطرہ ہیں تو وہ سیاسی دباؤ کے سامنے بھی نہیں بھکھیں گے۔

الہما یہ تجیہ اخذ کرنے کے لیے مضبوط منطقی بنیاد موجود ہے کہ مختصر مدت کے قرضوں کے حد سے زیادہ اجراء کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک، بینک اور رقم جمع کرنے والے افراد، دونوں کی جانب سے نقصان میں عدم شرکت کی وجہ سے رونما ہونے والا ناکافی مارکیٹ ڈپلن تھا۔ نظم و ضبط کے ذمہ داروں کے لیے ایسا ڈپلن نافذ کرنا اس وقت تک بہت مشکل ہے جب تک کہ خود مارکیٹ میں کام کرنے والوں کو اس کے لیے درست طور پر تیار نہ کیا جائے۔ اس کے راستے میں جمع شدہ رقم کی واپسی، یعنی اصل رقم کی پیشگوئی متعین شرح سود کے ساتھ واپسی کی یقین دہانی حاصل ہے۔

مخفی صورت حال رونما ہوتے ہی رقوم کے بھاؤ کا رخ اٹا ہو گیا۔ ۱۱ ایسے دھکے قرض لینے والے ملک کی بیرونی زر مبادله میں قرض واپس کرنے کی الہیت کے حوالے سے بے اعتمادی کا سبب بنتے ہیں۔ بیرونی زر مبادله کی تیز رفتار واپسی نے زر مبادله کی شرحوں اور اٹاٹوں کی قیمتوں میں شدید کی کی راہ ہموار کی۔ ان ملکوں میں مقامی کرنی میں بھی قرض کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ خیش بھے کے قرض دار جن سے توقع تھی کہ وہ مقامی کرنی میں اپنے قرضے واپس کریں گے، طے شدہ نظام الاوقات کے مطابق قرض کی رقوم واپس کرنے کے قابل نہ رہے۔ ان ملکوں میں مقامی بینکاری کا بحران رونما ہوا جس نے بیرونی بینکوں پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے، اس کی وجہ بیرونی ذمہ داریوں کی تنگیل میں مقامی بینکوں کی نااہلی تھی۔ یہ سب نہیں ہو سکتا تھا اگر معاملہ نفع نقصان میں شرکت، حتیٰ کہ درمیانی پاٹو میل مدت کے قرضوں کا ہوتا۔

حکومتوں کے پاس ان حالات میں دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیکس دہندگان کی بھاری رقوم کی قربانی دے کر مقامی بینکوں کو مشکل سے نکالا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ مسئلہ بن جانے والے بینکوں کو ناکامی کا اعلان کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ دوسرا راستہ بالعموم سیاسی طور پر قابل عمل نہیں سمجھا جاتا خواہ ماہرین کی رائے اس کے بر عکس ہو۔ ۱۲ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مالیاتی نظام میں جو، اصولی طور پر، جمع کرائی گئی رقوم کی سود کے ساتھ واپسی کی ضمانت دیتا ہے، حکومت کے لیے اس اصول کی خلاف ورزی کی اجازت دے کر لوگوں کے اعتماد کو تھیس پہنچانا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ، ایک مفرض یہ بھی ہے کہ اگر بڑے بینکوں کو ناکام ہونے کا اعلان کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ایک وباًی مرض کی طرح پھیلنے والے اس اقدام کے اثرات کے نتیجے میں مالیاتی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس طرح معیشت مسلسل تنگیں مخفی حالات سے دوچار رہے گی۔ ”ریادہ بڑے زیادہ ناکام“ نظریات کی بنیاد بھی ہے۔ چنانچہ حکومتوں عموماً بینکوں کو مالی مدد کے ذریعے مشکل سے نکالنے والے پہلے راستے کو سیاسی طور پر زیادہ محفوظ بھتی ہیں۔

مشرقی ایشیا کے بحران سے نہیں والی حکومتوں کو جس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ وہ بیرونی

بینکوں کو اس صورت حال سے نجات کس طرح دلائیں جبکہ مقامی بینکوں پر یہ ورنی بینکوں کے واجبات پیر ورنی زر مبادله میں تھے اور یہ ورنی بینکوں کے واجبات کی ادائیگی کے لیے جس قدر زر مبادله درکار تھا، ان ملکوں کے مرکزی بینکوں کے پاس اس مقصد کے لیے اس قدر زر مبادله موجود نہیں تھا۔ ان کے پیر ورنی زر مبادله کے ذخیرہ تجزی سے گھٹ چکے تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ کسی یہ ورنی ادارے سے امداد حاصل کریں۔ اس امداد کی فراہمی کے لیے آئی ایم ایف کی جانب دیکھا گیا۔ اس چیز نے فطری طور پر ان لوگوں کی جانب سے کندھے چینی کا طوفان برپا کر دیا جو بینکوں کے واجبات حکومتوں کی طرف سے ادا کر کے انہیں مشکل سے نجات دلانے کے طریقے کے خلاف تھے۔ ان حالات میں یہ مطالیہ سامنے آیا کہ آئی ایم ایف میں اصلاحات کی جائیں اور اس کے کردار کو کم کیا جائے۔<sup>۱۲</sup> تاہم آئی ایم ایف کے پاس کوئی دوسرا استنبیش تھا۔ اس پر اس کے باشراہ کان کی جانب سے، جن کے بینک مشکل میں تھے، زبردست دباؤ تھا۔ وسائل کی فراہمی سے آئی ایم ایف کا انکار پورے میں الاقوامی مالیاتی نظام کو غیر مختکم کر دیتا۔ اس لیے اس نے دباؤ کے سامنے سر جھکا دیا۔ تاہم اس کے نجات دلانے کے عمل نے غیر ارادی طور پر قرضوں کا بوجھنجی یہ ورنی بینکوں سے متاثرہ ملکوں کی حکومتوں کے مرکزی بینکوں کو منتقل کر دیا۔ نوبل انعام یافتہ Joseph Stiglitz نے بڑی داشمنانہ بات کہی ہے کہ ”نجی قرضوں کو سرکاری قرضوں میں نہیں بدلانا چاہیے..... یہ غلطی بہت سے موقع پر کی جاتی رہی ہے جس کا نتیجہ مغربی بینکوں اور حکومتوں کے دباؤ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔“<sup>۱۳</sup> ایک اور نوبل انعام یافتہ ماہر، پروفیسر جیمز نوہن نے بھی بھی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”جب نجی بینک اور کاروبار اس قابل ہوتے ہیں کہ جتنی بھی رقم جس مدت کے لیے بھی اور جس کرنی میں بھی چاہیں بطور قرض حاصل کر لیں تو وہ اپنے ملک کے زر مبادله کے محفوظ ذخیرہ پر مستقبل میں دعووں کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں۔“<sup>۱۴</sup>

مشرقی ایشیائی ملکوں میں مختصر مدت کے قرضوں کے بھاؤ پر حد سے زیادہ انحصار کے معاملے پر اس گفتگو کو اس غلط تاثر کا سبب نہیں بنتا چاہیے کہ صنعتی ملکوں میں ایسا ہوتا ممکن نہیں ہے۔ یہ سب ان

ملکوں میں بھی، اس حقیقت کے باوجود ممکن ہے کہ وہ بہتر قواعد و ضوابط اور گرانی پر بنی بیکاری نظام رکھتے ہیں۔ آئی ایم ایف ایسے امکانات کی موجودگی سے متنبہ کرتے ہوئے واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ”وجہات کچھ بھی ہوں، بہر کیف، منڈی میں تیزی اور مندی کے حرکات، موجودہ منڈیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اور یہ سمجھنا خلاف حقیقت ہو گا کہ وہ کبھی بھی مکمل طور پر خطرے سے باہر ہوں گے۔“<sup>۱۷</sup>

طويل مدّی کی پیش میجنت کے حفاظتی فنڈ کا انہدام: ہم اب دوسرا مثال لٹک آگئے ہیں۔ یہ ۱۹۹۸ء میں یواں یونیورسٹی ایم کی تباہی سے متعلق ہے۔ اس کی ضرورت بھی مختصرمدت کے قرضوں کی بہتات کی وجہ سے پڑی تھی۔ اگرچہ ”یونیورسٹی“ (حفاظتی فنڈ) کے نام سے خطرے کے کم کیے جانے کا ذہن میں خیال آتا ہے، لیکن ”یونیورسٹی“ زبانے ظاہری نام کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں یعنی سڑکتے ہیں،<sup>۱۸</sup> ”وہ غارت گرئے بازوں سے زیادہ کچھ نہیں جو شرط جتنے کے لیے بڑے پیانے پر قرض دیتے ہیں۔“<sup>۱۹</sup> یہ یونیورسٹی کا کثرتو اعداد و ضوابط کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں اور لیورنچ یا شارٹ سیلز پر عائد قبود کی پابندی نہیں کرتے۔ وہ ایک ہی فرم، صنعت یا شعبے میں بہک وقت متعدد مناصب حاصل کرنے میں آزاد ہوتے ہیں، حالانکہ ایسے اختیارات اگر دوسرے مالی اداروں کے منتظمین حاصل کریں تو اسے حکمت اور احتیاط کے منافی سمجھا جاتا ہے۔<sup>۲۰</sup> اس لیے وہ اپنے منادات کے مطابق منتخب کی گئی سرمایہ کاری یا تجارت کی حکمت پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس بات کا مناسب طور پر خیال رکھے بغیر کہ دوسروں پر ان کا کیا اثر ہو گا۔

ایک توی شہر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی زندگانہ طور پر کام نہیں کرتے۔ اگر وہ کام کریں تو غالباً وہ زیادہ منافع حاصل نہیں کر سکیں گے، اور جن خطرات کا نہیں سامنا کرنا پڑے گا وہ بھی زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس لیے وہ بالعموم دوسروں سے مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ممکن ہوتا ہے کیونکہ ان کے منتظمین اعلیٰ ان ہی کلبوں میں جاتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو، بہت

قریبی طور پر جانتے ہیں۔ ۲۰ خود اپنی دولت، اور اس غیر معمولی رقم کی طاقت سے جو وہ قرض لے سکتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی ملک کی مالیاتی منڈی کو، جب بھی وہ اسے اپنے مفاد میں پائیں، غیر مستحکم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں عام طور پر ہانگ کانگ سے لندن اور نیویارک تک کی منڈیوں میں سازباز کا الزام دیا جاتا ہے۔ ۲۱ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے الزام لگایا تھا کہ شارت ٹرم کرنی کے شے بازوں اور خصوصاً بڑے ہیچ فنڈز، ۱۹۹۷ء میں ملائیشیاء کے سکے رنگت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی معیشت کے بیشہ جانے کا پہلا سبب تھے۔ ۲۲ تاہم اس الزام کو ثابت کرنا بلاشبہ بہت مشکل ہے کیونکہ یہ فنڈ زمیں بھگلت اور بڑی مہارت اور رازداری کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ مہاتیر محمد کی بات پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس امر کا بڑا امکان ہے کہ یہ فنڈ زمہ صرف ملائیشیائی رنگت بلکہ تھائی بجات اور کمی دوسری مشرقی ایشیائی کرنیسوں کو گرانے کا ذریعہ بنے ہوں۔

بڑے پیمانے پر قرضوں کے حصول کے لیے ان ہیچ فنڈز کی صلاحیت ۱۹۹۸ء کے وسط میں ۱:۲۵ میں ایل ٹی سی ایم کے لیورٹچ میں واضح کی گئی ہے۔ ۲۳ جو نقصانات اس نے اٹھائے، انہوں نے اگست ۱۹۹۸ء میں اس کی ایکوئی (خاص اثاثوں کی قدر) ابتدائی ۸،۰۰۰ بلین سے گھن کر ۲،۳۰۰ بلین ڈال کر دی۔ اس کا لیورٹچ، اس بناء پر، صرف اس کی بیلس شیٹ پوزیشنوں پر، ۱:۵۰ تک بلند ہو گیا۔ تاہم اس کی ایکوئی نقصانات کی وجہ سے مسلسل مزید گھٹتی رہی، یہاں تک کہ ۲۳ ستمبر ۱۹۹۸ء کو ۶۰۰۰ بلین ڈال ریا اپنی ابتدائی قدر کے آٹھویں حصے تک پہنچ گئی۔ اپنی بیلس شیٹ کے مطابق اس تاریخ کو اس کے پاس ۱۰۰ بلین ڈال ریزا دادھے تھے، اس کا لیورٹچ اصل سرمائے سے ۱۲۷ گنا تک بڑھ چکا تھا۔ ۲۴ اس طرح قرض کی تہہ پر تہہ چڑھتی گئی اور اس پر قابو پانا دشوار ہوتا چلا گیا۔ فیڈرل ریزرو کو اسے مشکل سے نکالنے کے لیے آگے آتا پڑا ایکونک اس کے نادہند ہو جانے سے اس سلسلے کے آگے بڑھتے چلے جانے کا خطروہ پیدا ہو جاتا۔ چٹلی کے تجارتی بینکوں میں سے بہتوں نے، جن کی فیڈرل ریزرو کی جانب سے دیکھ بھال کی جاتی تھی اور جنہیں صحت مند اور محفوظ باور کیا جاتا تھا، اس فنڈ کو بھاری قرضے دے رکھے

تھے۔ اگر فیڈرل ریزرو نبیس نجات دلانے کے لیے نہ آتا تو امریکا کے مالیاتی نظام میں تکین بحران پیدا ہو سکتا تھا، جس کے تباہ کن اثرات ایک دباء کی طرح پوری دنیا کو متاثر کر سکتے تھے۔<sup>۲۵</sup> اگر محض ایک یون فنڈ کی صرف ۸،۶ بلین ڈالر کی ابتدائی ایکوئی کے ساتھ ناکامی، امریکی اور عالمی معیشت کو مالیاتی تباہی کے دہانے تک پہنچا سکتی ہے تو یہ سوال اٹھانا قطعی جائز ہو گا کہ اگر یون فنڈ کسی بڑی تعداد مثلاً چھ ہزار یا اس سے زیادہ کی تعداد میں مشکل میں پھنس جائیں تو کیا ہو گا۔<sup>۲۶</sup>

ایک یون فنڈ اپنی کارروائیوں کو رازداری کے ساتھ انجام دے سکتا ہے کیونکہ، امریکا کے فیڈرل ریزرو سسٹم کے چیئرمین الان گرین پین کے بقول ”قواعد و ضوابط کی پابندی سے بچانے کے لیے اس کی تنقیل اس طرح کی جاتی ہے کہ اس سے مستفید ہونے والوں کی تعداد بہت اونچے اور انہائی دولت مند افراد تک محدود رہے۔“<sup>۲۷</sup> تا ہم وہ یہوضاحت نبیس کرتے کہ بینکوں نے نہایت باقاعدہ اور بہت اچھی دیکھ بھال کے حامل سمجھے جانے والے بینکاری نظام میں، پر خطرہ بازی کے لیے ایسے اونچے اور انہائی دولت مند افراد کو حد سے زیادہ قرضوں کی سہولت مہیا کرنا، کس طرح ممکن پایا۔ کیا وہ اس معروف حقیقت سے بے خبر تھے کہ قرضوں کا لیور تج جتنا بلند ہو گا، نادہندگی کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا؟ لیور تج رکھنے والی پوزیشنوں کو بند نہ کرنا، مارکیٹ کی نقل و حرکت کو بڑھا کر اور بالواسطہ اثرات مرتب کر کے، مالیاتی منڈیوں کے لیے بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔<sup>۲۸</sup>

یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ مالیاتی بحران صرف وہیں رونما نہیں ہوتا جہاں مشرقی ایشیا کے بینکوں کی طرح قواعد و ضوابط نامناسب ہوں، بلکہ امریکا کی طرح باقاعدہ منظم اور بخوبی دیکھ بھال کیے جانے والے نظام میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یون فنڈ زبانا باطنیں تھے مگر بینک تو باضابطہ تھے۔ پھر آخر بینکوں نے ایل ٹی سی ایم اور دوسرے فنڈز کو بھاری قرضے کیوں دیے؟ مگر ان کے ذمہ دار کیا کر رہے تھے اور وہ بحران سے پہلے مسئلے کو سمجھنے اور اسے درست کرنے میں ناکام کیوں رہے؟ کیا اس بات کی کوئی صفائحہ ہے کہ بینکوں کی خطرے میں شرکت کے بغیر یون فنڈز کو باضابطہ بنانے سے، دوسرے شے بازوں کو، جو کسی ضابطے کے پابند نہیں، حد سے زیادہ رقم کا بہاؤ رک جائے گا؟

بیرونی زر مبادلہ کی منڈی کا عدم استحکام: اب ہم تیری مثال تک پہنچ گئے ہیں جو یورپی زر مبادلہ کی منڈیوں کے عدم استحکام پر مشتمل ہے۔ مختصر مدت کے قرضوں پر بہت زیادہ انحصار نے یورپی زر مبادلہ کی میں الاقوامی منڈیوں میں بھی عدم استحکام کی ایک واضح کیفیت پیدا کر دی۔ میں آف انٹریشنل سلمینش کے اہتمام میں کیے جانے والے ایک سروے کی رو سے، دہری گنتی کو درست کرنے کے لیے، یورپی زر مبادلہ کی روایتی منڈیوں کا یومیہ کار و بار اپریل ۲۰۰۳ء میں ۱۸۳۰ بلین ڈالر تک پہنچ گیا تھا جبکہ اس کے مقابلے میں اپریل ۱۹۸۹ء میں یہ صرف ۵۹۰ بلین ڈالر تھا۔ ۲۹ اپریل ۲۰۰۳ء میں یورپی زر مبادلہ کا یومیہ کار و بار، عالمی تجارت کے مجموعی جنم (برآمدات + درآمدات) سے ۳۷ گناہے زیادہ تھا۔ ۳۰ اگر خدمات، یکٹر فہادلوں، اور سماۓ کے شے سے مبڑی بہاؤ کو الگ رکھا جائے تو بھی یہ کار و بار، جائز حد سے کہیں زیادہ تھا۔ ۲۰۰۳ء کے کار و بار کا صرف ۳۵ فیصد، موقع پر ہونے والے سودوں سے متعلق تھا، جو اپریل ۱۹۸۹ء سے، یعنی پندرہ سال میں ۹۶ فیصد سالانہ کی مرکب شرح تک پہنچ گیا۔ ٹرین اور کا بنیشن۔ ۲۵ فیصد۔ بڑی حد تک آؤٹ رائٹ فارورڈز اور یورپی زر مبادلہ کے سودوں سے متعلق تھا۔ اس طرح ۸۸۱۱ فیصد سالانہ کی مرکب بڑھوتری واقع ہوئی جو اسی مدت میں عالمی تجارت میں ہونے والی ۶۷ فیصد بڑھوتری سے کہیں زیادہ تھی۔ ۳۱

بیکار بالعلوم رقوم کے استعمال میں حتی مقاصد کا ضروری لحاظ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ درست ہوتا تو کیا یہ بازی پر تین لین دین کے لیے اتنے بلند درجے کے لیور یجذبہ قرضہ کا پھیلاو عمل میں آسکتا تھا؟ بلند لیور تجیہ یورپی زر مبادلہ کی منڈیوں پر ایسے اثرات مرتب کرنے کا باعث بنا جو اسے طویل المیعاد اساسات کے بجائے مختصر مدت کی شے بازی کی طرف لے گئے۔ اس چیز نے انہیں بہت زیادہ ناپابندیار بنادیا اور ان کے اندر بے انتہا عدم استحکام پیدا کر دیا۔ ان منڈیوں کی مؤثر کارکردگی پر، اس کے نتیجے میں، سخت متفق اثرات پڑے۔ مرکزی بینکوں کی جانب سے اس عدم استحکام پر، شرح سود میں معمولی تبدیلیوں یا چند سولین ڈالر یومیہ داخل کیے جانے جیسے طریقوں سے قابو پانے کے لیے کی گئی کوششیں بالعلوم نتیجہ خیز طور پر موثر ثابت نہیں ہوئیں۔

شہ بازی پر منی لیں دین میں ڈرامائی اضافے جس کے نتائج نہ صرف تازہ ترین صورت حال کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں بلکہ ادالیگیوں کے نظام میں بھی اتنی زیادہ توسعی کی صورت میں سامنے آئے ہیں کہ بینک فار انٹرنشنل ٹائمس کے سابق جزل میجر اور فائناشل اسٹیلٹی فورم کے چیئرمین Andrew Crockett مکنہ بریک ڈاؤن کے مقابلے میں مسلسل زیادہ غیر محفوظ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔<sup>۳۲</sup> حتیٰ کہ مسٹر گرین اپنی، بین الاقوامی مالیات کے اعصابی مرکز سے معاملات کو دیکھتے ہوئے، کراس بارڈ فائنانس میں اس پھیلاو کو، اس تجارت سے متعلق چونکا دینے والا پاتے ہیں جس کے لیے یہ مالیات کا بندوبست کرتا ہے۔<sup>۳۳</sup> اتنے بڑے پیانے پر پھیلاو کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسائل پیدا ہوں تو وہ پورے مالیاتی نظام میں نفوذ کر سکتے ہیں اور مالیاتی اداروں کے لیے تباہ کن اثرات کا باعث بن سکتے ہیں۔

امریکی میکیت کی نمایاں ناہمواریاں ناہمواریاں<sup>۳۴</sup> ہیں: آئیے اب ہم چوتھی مثال کا جائزہ لیں جو امریکا کی میکیت کی نمایاں ناہمواریوں سے تعلق رکھتی ہے۔ امریکا اگرچہ پچھلے چند برسوں سے مجموعی معاش کا کردار گی کے پیشتر پیانوں کے اعتبار سے اچھا مظاہرہ کر رہا ہے مگر جو کچھ وہ پیدا کرتا ہے اور جو کچھ وہ صرف کرتا ہے، اس کے درمیان بڑی اور بڑھتی ہوئی خلیج پریشان کن کرتا ہے۔ امریکا کا تجارتی کھاتہ ۱۹۷۰ء کے عشرے کے اواخر سے مسلسل خسارے میں ہے جبکہ جاری کھاتے ۱۹۸۰ء کی دہائی کے وسط سے اسی کیفیت سے دوچار ہے۔ جاری کھاتے کا خسارہ اب خام تو می پیداوار (جی ڈی پی) کی ۶۳ء میں تک پہنچ کا ہے۔ ان متواتر خساروں کے نتیجے میں امریکا کے خالص سیر دنی قرضے، مجرد اصطلاحی مفہوم اور جی ڈی پی کے نی صد ناسب، دونوں اعتبار سے، ریکارڈ بلند سطح تک پہنچ گئے ہیں۔

جاری کھاتے کا خسارہ، سرکاری شبکے کے میزاںیے کے خسارے اور خجی شبکے کی بچت کے کم ہونے کا عکاس ہے۔ وفاقی حکومت، ۱۹۷۰ء سے ہر سال جو کچھ لیتی ہے، اس سے زیادہ خرچ کرتی چلی

آرہی ہے، سوائے ۱۹۹۸ء سے ۲۰۰۰ء تک کے ایک منتشر و تلقے کے۔ ۲۰۰۰ء کے ۲۰۰۳ء میں ۲۰۰۷ء میں ۲۰۰۸ء میں ۲۰۰۹ء میں ڈالر کے فاضل بجٹ کے مقابلے میں ۲۰۰۰ء سے ۲۰۰۲ء میں ۲۰۰۴ء میں ۲۰۰۵ء میں ڈالر کے خسارے کا بجٹ سامنے آیا۔<sup>۳۵</sup> امریکا کے نجی شعبے کی خالص بچت، یعنی گھریلو اور کار و باری بچتوں میں سے سرمایہ کاری کو منہا کرنے کے بعد باقی رہ جانے والی رقم، ۱۹۹۰ء کے عشرے کے وسط سے منفی چلی آرہی ہے۔ یہ گھریلو صارفین اور فرمون، دونوں کی جانب سے بلکری کے ساتھ ادھار لینے اور خرچ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ۱۹۹۰ء کے عشرينے کے وسط سے بچت کی شخصی شرح مسلسل گھٹ رہی ہے۔<sup>۳۶</sup> ۲۰۰۳ء میں گھریلو بچت، بعداز ٹیکس آمدنی کا صرف ایک فی صدر رہی، جبکہ اس کے مقابلے میں ۱۹۵۰ء سے ۲۰۰۰ء تک یہ شرح اوس طبق فی صد تھی۔ اس کے باوجود ریل ائیٹ، پلانٹ اور ایکو چمٹ میں سرمایہ کاری کی سطح بلند ہے۔ اس کیفیت نے بچت میں فرق پیدا کیا۔ اس کے نتیجے میں سود کی شرح بڑھنی چاہئے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا سبب یہ وہی ملکوں سے رقوم کا بہاؤ ہے جن میں چین، جاپان اور بھارت خالص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کم شرح سود کی وجہ سے رہائشی ریل ائیٹ کی قیمتیں چڑھ گئیں۔ اس سبب ہاؤس ہولڈ کی خالص قدر میں ہونے والے اضافے نے کم شرح سود کے ساتھ مل کر، صارفین کی جانب سے خرچ کو بچت کی قیمت پر مزید بڑھادیا۔

اس تناظر میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ناہمواریوں کا اتنے لمبے عرصے تک برقرار رہنا کیوں کر ممکن ہوا، اور منڈی کی قتوں کی جانب سے اب تک اس خرابی کی اصلاح کیوں نہیں کی جاسکی۔ اس کی وجہ، جیسا کہ دوسری مثالوں کے جائزے کے دوران بھی بات ہو چکی ہے، مالیاتی نظام میں ضروری مارکیٹ ڈسپلن کی کمی ہے۔ سرکاری اور نجی شعبے اس وقت خرچ میں کٹوتی کیوں کرتے ہیں جب شرح سود کم ہو، اور قرض لینا آسان ہو؟ قرض لینا رقم جمع کرانے والوں اور بینکوں، دونوں کی جانب سے نقصان میں شراکت نہ ہونے کی وجہ سے آسان ہے۔ موجودہ منظر نامے میں منڈی کی قوتیں امریکی حکومت پر مالیاتی ڈسپلن نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتیں لیکن وہ کم از کم نجی شعبے کو قرض دینے کے رحاجان کو گھٹانے میں تو باہم تعاون کرہی سکتی ہیں۔ اس کے باعث بچت میں ہونے والا اضافہ، سرکاری شعبے

کے خسارے کے اثرات کی تلاشی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

ان تفصیلات سے یہ اہم سوال ابھرتا ہے کہ غیر ملکی، امریکا کو کب تک قرض دینے کا سلسلہ جاری رکھنا پسند کریں گے؟ ڈالر کی طاقت اور استحکام پر اعتماد، اسے محفوظ کرنی کی حیثیت سے قابل استعمال بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر خسارہ جاری رہے، ڈالر پر عدم اعتماد بڑھتا رہے اور اس کے نتیجے میں امریکا سے رقم کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو کیا ہو گا؟ یہ محض ایک نظری سوال نہیں ہے۔ پچھلے تیس برسوں میں ڈالر زبردست انحطاط کے چار جنکوں کا تجھ پر کرچکا ہے۔ دنیا کے زر مبادلہ کے ڈنار کا تقریباً دو تہائی چونکہ اب بھی ڈالر کی شکل میں ہے، اس لیے ڈالر سے باہر دوسری کرنیوں اور اشیاء کو زر مبادلہ کے لیے اپنانے کی تحریک، جیسا کہ ۱۹۷۰ء کی دہائی کے اوآخر میں ہوا، ڈالر کے تباول کی شرحوں میں تیز رفتار گراوٹ، سود کی شرح اور اشیاء کی قیتوں میں اضافے اور امریکی معيشت میں بحران کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ کیفیت پوری دنیا کو طویل مدت پر محیط کساد بازاری کی جانب لے جاسکتی ہے۔ اس وقت اصلاح کا عمل اتفاقی کیفیت کے ساتھ ہو گا، جبکہ ایسا ہونا بالخصوص بد قسمی کے متtradف ہو گا کیونکہ مارکیٹ ڈپلین اس وقت یہ اصلاح بہت آسانی سے اور بہت کم نقصان کے ساتھ عمل میں لاسکتا ہے۔

## علاج

اب تک کی گفتگو ہمیں سب سے اہم سوال اور بحث کے اس بنیادی نکتے تک لے آئی ہے کہ: بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں پائے جانے والے عدم استحکام کو کیسے کم کیا جاسکتا ہے؟ اگر مختصر مدت کے قرضوں پر انحصار پر پابندی جواب ہے تو اسے حاصل کرنے کے بہترین طریقے کی نشان دہی کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ بہتر قواعد و ضوابط کا نفاذ ہے۔ ۳۸ تاہم قواعد و ضوابط کے ناگزیر ہونے کے باوجود ان پر مکمل طور پر انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ تمام ملکوں اور تمام مالیاتی اداروں پر ان ضوابط کو یکساں طور پر نافذ کرنے میں حائل مشکلات ہیں۔ اس کے تین اسباب ہیں۔ ایک تو آف بیلنس شیٹ حسابات اور بینک کے رازداری کے معیارات کی پیدا کردہ عالمگیریت کا حلیخ اور مسلمان۔ ۲۲

پیچید گیاں اور وہ مشکلات ہیں جو بینکوں کی جائیج پر کرنے والوں کو، بینک کے اثاثوں کے معیار کے درست طور پر تعین میں پیش آتی ہیں۔ دوسرے یہ خوف ہے کہ اگر قواعد و ضوابط کا غیر یکساں نفاذ ہوا تو رقم سمندر پر جنتوں کو پرواز کر جائیں گی جہاں تمام یعنی نذر زکا تقریباً نصف پہلے ہی موجود ہے۔<sup>۳۹</sup> مارکیٹ بینکنگ کا ابھرتا ہوا بحران ایسی کئی مثالیں پیش کرتا ہے کہ بظاہر اچھا سرمایہ رکھنے والے بینک بھی دیوالیہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے قرضوں کے معاملات کے ناقص معیار کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایں ایسی ایم بحران نظام رکھ رکھتا ہے کہ بظاہر ایک بخوبی منضبط نظام میں بھی بینک سے کی گرم بازاری میں پھنس کر کس طرح الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ بینکوں کو جائز بند ضوابط کی چھتری کے نیچے لانا نہ صرف یہ کہ عمل درآمد کی لاگت کو بڑھا سکتا ہے، بلکہ رقم جمع کرانے والوں کو گمراہ کر کے اس خیال میں بنتا کر سکتا ہے کہ ان کی جمع کرانی گئی رقم کو ضوابط کے تحت خصوصی تحفظ حاصل ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ قواعد و ضوابط ضروری نہیں ہیں۔ تاہم ضابطہ کاری اور نگرانی اس صورت میں مزید موثر ہو گی جب اس کے ساتھ ساتھ مالیاتی نظام میں بھی سرمایہ کاروں اور بینکوں دونوں کی کاروبار کے نقصان میں شرکت کے ذریعے بہتر نظم و ضبط کا اہتمام کیا جائے۔ بینکوں کو مشکل سے نکلنے کے لیے محض مالی تعاون، جیسا کہ بعض تجزیہ کاروں کی جانب سے تجویز کیا جاتا رہا ہے،<sup>۴۰</sup> ہمیں زیادہ دور تک نہیں لے جاسکتا۔ جو کچھ ضروری ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں کہ جب بینک ڈوبے تو حصہ یافہ گان کو بھی نقصان اٹھانے والوں میں شامل رکھا جائے، بلکہ رقم جمع کرانے والوں کو بھرپور طریقے سے اس پر تیار کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بینکوں کے چنان میں محتاط رہیں، اور بینکوں کی انتظامیہ قرضے دینے اور سرمایہ کاری کرنے میں مزید احتیاط سے کام لے۔ اپنے اثاثوں کے معیار کو پر کھنے کے معاملے میں بینکوں کے مثیج ضابطہ کاروں اور رقم جمع کرانے والوں سے بہتر حیثیت میں ہوتے ہیں، اور نقصان میں شرکت انہیں ایسے فیصلے کرنے پر آمادہ کرے گی جنہیں وہ اپنے بینک اور رقم جمع کرانے والوں کے بہترین مفاد میں سمجھیں گے۔

اس طرح مالیاتی نظام میں سیف ڈپلٹ کے اہتمام کے ساتھ بینکوں کی ضابطہ کاری اور نگرانی کو

زیادہ طاقتور بنا ضروری قرار پاتا ہے۔ یہ کام بیکوں، حصہ یافتگان اور سرمایہ کاری کے لیے رقم جمع کرنے والوں (اپنی جمع کرائی گئی رقم پر منافع پانے کے خواہش مندوں) کے حصے کو نقصان کے اندیشے میں شریک کر کے، یعنی قرض پر انعام کم کر کے اور ایکوئی پر بڑھا کر انجام دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرض کی دستیابی کو، قرض دینے والے کی جانب سے بھی نقصان کے خطرے میں کسی حد تک شراکت کے ساتھ، حقیقی اشیاء اور خدمات تک محدود کرنا ضروری ہے۔

رقم جمع کرنے والوں کو کاروباری نقصان کے خطرے میں شریک کر کے، انہیں اپنے بیکوں کے چنان میں زیادہ احتیاط سے کام لینے اور یہ دیکھتے رہنے کے لیے کہ بینک درست طور پر چلائے جا رہے ہیں، سرگرم کیا جاسکے گا۔ اسی طرح بیکوں کو نقصان کے خطرے میں حصہ دار بنانے سے، بینک انتظامیہ مالیات کی فراہمی میں خطرات کا اندازہ لگانے میں زیادہ احتیاط سے کام لے گی اور قرض داروں کی جانب سے رقم کے استعمال کی نگرانی زیادہ موثر طور پر کرے گی۔

سرمایہ کاری کی تجاویز کی قرض خواہ اور قرض داروں کی جانب سے دہری جانچ پڑتا، مارکیٹ ڈپلن کو بہتر بنانے اور مالیاتی نظام کو زیادہ صحت مند بنانے میں مدد دے گی۔ آئی ایم ایف بھی اپنا وزن اس دلیل کے ساتھ لفظ نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر مالیات کی فراہمی کے پلٹے میں ڈال چکی ہے کہ ”قرض تخلیق کرنے والے داخلی بہاؤ کے مقابلے میں یہ ورنی راست سرمایہ کاری کو اکثر ترقیاتی مقاصد کے لیے مالیات کی فراہمی کا محفوظ تر اور زیادہ مستحکم طریقہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ملکیت، پلانٹ کے کنٹرول، آلات اور بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے ہوتا ہے، اس لیے کسی معیشت کی بڑھوٹی کی صلاحیت میں اضافے کے لیے مالی کمک فراہم کرتا ہے، جبکہ مختصر مدت کے یہ ورنی قرضے، عموماً مصرفانہ مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مزید برآں، بحران کی صورت میں، جب سرمایہ کار اپنے لیے گھر بیلو سیکوریٹیز فروخت کرنے کا راستہ منتخب کر سکتے اور بینک قرضوں کو معاف کرنے سے انکار کر سکتے ہیں، تو طبعی سرمایہ کے مالکوں کو اتنی آسانی سے خریدار نہیں مل سکتے۔“<sup>۲۴</sup>

یہ بات اس اعتراض کا سبب بن سکتی ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے رقم جمع کرنے والے عموماً

نقسان کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لہذا وہ نفع نقسان کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرنے والوں کے عکس، اپنی رقوم کو نقسان کے خطرے سے دوچار کرتا پسند نہیں کریں گے۔ انہیں نقسان کا خطرہ مول لینے پر مجبور کرنا، ان کے اندر عدم تحفظ کا احساس، ان کے اور ان کے خاندان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس منٹے سے بچنے کے لیے، بینکوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ نقسان کے خطرے سے خائف سرمایہ کاراجمع کنندگان کی فراہم کردہ رقوم کو کم خطرے والے اثاثوں میں لگائیں۔ بینکوں کو نقسان کی تلافی کے لیے محفوظ رقوم کا بندوبست بھی کرنا چاہیے تاکہ رقوم جمع کرانے والوں کو لازماً نقسان نہ اٹھانا پڑے۔ یہ طریقہ بینکوں کو نقسان کے خطرات سے نجٹے کے حوالے سے مؤثر بنانے میں مزید کہولت کا باعث بن سکتا ہے، اور اس طرح بینکاری نظام کو زیادہ محفوظ اور زیادہ صحت مند بنایا سکتا ہے۔

علاوه ازیں، جیسا کہ Hicks نے استدلال کیا ہے، سودا بچھے اور برے ہر حال میں ایک ہی طرح ادا کیا جانا ہوتا ہے، لیکن منافع منقسمہ (ڈیویڈنڈ) کو برے وقت میں کم کیا جاسکتا ہے، اور انتہائی حالتوں میں روکا بھی جاسکتا ہے۔ اس لیے حص کے ذریعے مالیات کی فراہمی کا بوجھ نبنتا کم ہوتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابھی وقت میں زیادہ ڈیویڈنڈ موقع ہوگا، تاہم ایسے ناموزوں وقت میں زیادہ بلند ڈیویڈنڈ سے بچا سکتا ہے۔ اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں ”فرم ایک حد تک اپنے آپ کو اس بوجھ کے مقابلے میں جو مشکل حالات میں ٹککیں ہو سکتا ہے، بڑھی ہوئی ادا یگی کی قیمت پر، ایسے حالات میں جب ایسا کرنا آسان ہو، محفوظ بنائے گی۔ اس مفہوم میں کہ اس کی پوزیشن کی نزاکت کم ہو جائے۔“ ۲۲ اس چیز کو کاروبار کی ناکامی میں نمایاں کی کا سبب بنتا چاہیے اور نتیجتاً معاشی عدم استحکام کو بڑھانے کی نہیں، کم کرنے کی راہ ہموار ہوئی چاہیے۔

ایکوئیٹ کی بنیاد پر مالی وسائل کی فراہمی پر زیادہ انحصار کے حامی آج بنیادی دھارے کی معاشیات تک میں موجود ہیں۔ ہمارو ڈیوینورٹی کے پروفیسر Kenneth Rogoff بیان کرتے ہیں کہ ”مثال دنیا میں ایکوئیٹ کی بنیاد پر قرض کی فراہمی اور برآہ راست سرمایہ کاری، کہیں زیادہ بڑا

کردار ادا کرے گی۔“ وہ مزید پر زور انداز میں کہتے ہیں : ”قرض اور ایکوئیٹ کے درمیان بہتر توازن کے ساتھ نقصان کے خطرے میں شرکت وسیع پیانے پر فروغ پائے گی اور مالیاتی بحران تیزی سے ختم ہو جائے گا۔“ ۳۲ تاہم اگر قرض اور ایکوئیٹ کے درمیان بہتر توازن کے ساتھ ساتھ، قرض حقیقی اشیاء اور خدمات کی خریداری سے بھی مسلک ہو، جیسا کہ اسلامی تعلیمات کی رو سے ہونا چاہیے، تو یہ چیز ہمیں مالیات کی منڈیوں میں عدم استحکام کو کم کرنے میں، سٹریڈ بازی کے لیے حد سے زیادہ قرضوں کے اجراء پر پابندی کے ذریعے، ایک قدم آگے لے جائے گی۔ مالیاتی نظام میں بہتر ڈیلین کے متعارف کرائے جانے سے، جسے سود کی ممانعت یقینی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، تیز زیادہ موثر ضوابط اور نگرانی کے ساتھ، مالیاتی منڈی میں بذریعہ سرمایہ کے فرار کے رجحان میں واضح کی ہوگی اور ترقی کی رفتار میں تیزی فروغ پائے گی۔“ ۳۳

### اسلامی مالیاتی نظام

سود پر مبنی موجودہ بالادست مالیاتی نظام کی محولہ بالا کمزوریاں ایک نئے مالیاتی نظام کی تعمیر کے متعارف کرائے جانے کے لیے ایک مضبوط منطقی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ یہ ضرورت ہمیں اسلامی بینکاری کی جانب لاتی ہے جو سود کے خاتمے کی کوشش کرتی اور اس کی جگہ نفع / نقصان میں شرکت کا اصول پیش کرتی ہے۔ ڈیمانڈ ڈیپاٹس چونکہ مالیاتی اداروں کی جانب سے مالی وسائل کی فراہمی کے خطرات میں شرکت نہیں کرتے لہذا کوئی منافع بھی حاصل نہیں کرتے، اس لیے ان کی واپسی کی لازماً ضمانت دی جانی چاہیے۔ تاہم سرمایہ کاری کے لیے جمع کرائی گئی رقم خطرات میں حصہ دار ہوتی اور طے شدہ تابع کے مطابق نفع یا نقصان میں شریک ہوتی ہیں۔ یہ چیز جو اب اس سرمایہ کاری کے لیے رقم کا جمع کرنے والوں کو عارضی شیسر ہولڈر بنادے گی۔ مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے لیے رقم کا جمع کرایا جانا، ان کے حصص خریدنا اور ان سے دستبردار ہونا، ان حصص کو بھٹانے کے مانند ہوگا۔ بالکل یہی معاملہ اس وقت ہوگا جب یہ مالیاتی ادارے کاروبار کے لیے قرض دیں گے یا قرضداروں کی جانب

سے انہیں قرض کی رقم واپس کی جائے گی۔ یہ ادارے جن کاروباروں کو مالی و سائل فراہم کریں گے، ان کے خطرات میں بھی شریک ہوں گے۔ یہ طریق کار مجموعی مالیاتی وسائل میں نمایاں طور پر ایکوئیٹ کا حصہ بڑھانے اور قرض کا حصہ گھٹانے کا ذریعہ بنے گا۔ ایکوئیٹ یا تو جو ائمہ اشک کمپنیوں اور دوسرے کاروباروں کے شیئرز کی شکل میں، یا پھر مالیات کی فراہمی کے مضارب اور مشارک کے طریقوں کے تحت چلائے جانے والے منصوبوں میں، نفع اور نقصان میں شرکت (PLS) کی صورت میں ہوگی۔

ایکوئیٹ پر زیادہ انحصار کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں کہ قرض کی بنیاد پر مالیات کی فراہمی کامل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افراد، کمپنیوں اور حکومتوں کی تمام مالیاتی ضروریات نفع نقصان میں شرکت کے تابع نہیں کی جاسکتیں۔ لہذا قرض ناگزیر ہے۔ ایک عملی نہجہ ہونے کی بناء پر اسلام نے ایکوئیٹ پر زیادہ انحصار کی کوشش میں قرض کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا ہے۔ تاہم اسلامی مالیاتی نظام میں قرض کی تخلیق، حقیقی اشیاء اور خدمات کی فروخت یا اجارہ کے ذریعے یعنی مرابحة، اجارہ، سلم اور استئنی پرمنی طریقوں سے عمل میں آتی ہے۔

مالیات کی فراہمی کے، فروخت پرمنی طریقوں میں، پہلے سے متعین شرح منافع، انہیں سود پرمنی طریقوں کی مانند بنا سکتی ہے۔ تاہم یہاں معاملہ یہ نہیں ہے۔ ان دونوں طریقوں میں نمایاں فرق موجود ہے، ان میں سے دو فرق بالخصوص اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ فروخت پرمنی طریقوں میں قرض کا بلا واسطہ لین دین نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے ان میں خرید فروخت یا اجارہ کے سودوں میں حقیقی اشیاء و خدمات شامل ہوتی ہیں۔ شریعت نے ان سودوں کو معتبر بنانے کے لیے متعدد شرائط عائد کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ فروخت کنندہ (مالیات فراہم کرنے والا اسرمایہ دار) بھی، منافع میں شرکت کے لیے خطرے میں لا زما ایک حد تک حصہ دار ہوگا۔ وہ اس چیز سے دوسری شرط کی بناء پر نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ فروخت کنندہ کے لیے لازم ہے کہ وہ جو چیز فروخت کرے وہ اس کا مالک بھی ہو اور وہ چیز اس کے قبضے میں بھی ہو۔ شریعت کسی شخص کو وہ چیز فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیتی جس کا وہ خود

مالک نہ ہوا اور جو اس کے قبضے میں نہ ہو، سو ائے سلم اور استثنی کے معاملات کے جو اس عام اصول سے مستثنی ہیں۔ جب ایک فروخت کنندہ اسرایاہ کاران اشیاء کی ملکیت اور قبضہ حاصل کر لیتا ہے جنہیں وہ قرض پر فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ خطرہ مول لیتا ہے۔ اس طرح شے اور قیاس کی تمام شارٹ سیز خود بخود تتم ہو جاتی ہیں۔ یوں اسلامی طریقوں سے مالی وسائل کی فراہمی کا دائرہ حقیقی معاشری ترقی کے قدم بقدم ہی وسیع ہو سکتا ہے، چنانچہ یہ طریقے حد سے زیادہ قرض کے پھیلاو کو، جو کہ بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں کے عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ ہے، روکنے میں معاون ہوتے ہیں۔

اس فرق کا دوسرا کلیدی غلتہ یہ ہے کہ یہ سود کی شرح نہیں بلکہ فروخت شدہ شے یا خدمت کی قیمت ہے جو فروخت پر منی مالیات کاری کی صورت میں مقرر کی جاتی ہے۔ جب ایک بار قیمت تعین ہو جاتی ہے تو اسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا، حتیٰ کہ غیر متوقع حالات کی وجہ سے تاخیر ہو جانے کی شکل میں بھی نہیں۔ یہ چیز مشکل حالات میں خریدار کے مفاد کے تحفظ میں مدد دیتی ہے۔ تاہم اگر خریدار قصد آداگی میں دیر کرے تو اس سے بینک کے لیے نقد رقم کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسلامی مالیات میں یہ ایک بڑا غیر علیل شدہ مسئلہ ہے اور ماہرین مل جل کر شریعت کے مطابق اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔<sup>۲۵</sup>

نفع نقصان کی بنیاد پر شرکت کے طریقوں کا حصہ، اب تک، اسلامی بنیکوں کی مالیات کاری کے عمل میں نہیں کم ہے اور فروخت پر منی طریقوں کا حصہ نہیں طور پر بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کام مشکل ہے اور، اس کو دو عمل لانے کے ابتدائی مرحلے میں، یہ بینک ایسے خطرات مول نہیں لینا چاہتے جن سے وہ موثر طور پر نہ سکتے ہوں۔ اس کام کے لیے ان کی تیاری، مہارت رکھنے والی افرادی قوت نیز ادارتی بنیادی ڈھانچے کی شکل میں، مکمل نہیں ہے۔<sup>۲۶</sup> تاہم یہ شرکت ماہرین محسوس کرتے ہیں کہ اگرچہ فروخت پر منی طریقے، سود پر منی مالیات کاری سے مختلف اور شریعت کی رو سے جائز ہیں، اس کے باوجود سود کی ممانعت کے جو سماجی معاشری فوائد اور بیان کیے گئے، وہ اس وقت تک پوری طرح حقیقت نہیں بن سکتے جب تک نفع نقصان میں شرکت پر منی طریقوں کا حصہ، کل مالیات

میں نمایاں طور پر بلند نہیں ہو جاتا۔ اس لیے نفع نقصان میں شرکت کے طریقوں کے استعمال میں تحریر فتاواضافے کا مطلوب ہونا واضح ہے۔

اسلامی بینکوں نے پوری دنیا میں ٹھوس ترقی کی ہے، اس کے باوجود میں الاقوامی بلکہ صرف مسلم دنیا کی مالیات کے کل جنم میں بھی ان کا حصہ بہت تھوڑا سا ہے۔ یہ صورت توقعات کے خلاف نہیں کیونکہ وہ مالیاتی وساطت کے ایک نئے نظام میں، تربیت یافتہ عملے اور معاون یا مشترکہ اداروں کے بغیر، جوان کی کامیاب کارکردگی کے لیے ضروری ہیں، پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا اہم بات نہیں کہ ان کی جمع شدہ رقوم اور اثاثوں کا جنم کتنا ہے، بلکہ وہ اعتبار جو غیر سودی مالیاتی وساطت کا ری ہے دنیا بھر میں حاصل کیا ہے اور وہ ثابت ثبوت جو اس نے، اس نئے نظام کے پائیدار اور قابل عمل ہونے کے حوالے سے فراہم کیے ہیں، اصل اہمیت ان کی ہے۔

۱۹۵۰ء اور ۱۹۶۰ء کے عشروں میں اسلامی بینکاری محض ایک علمی خواب تھی۔ بہت ہی کم لوگ حتیٰ کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں میں بھی، اس سے واقف تھے۔ بہر صورت یہ تصور اب ایک علمی حقیقت بن چکا ہے۔ اس نے فیڈرل ریزرو بورڈ اور بینک آف انگلینڈ جیسے مغرب کے مرکزی بینکوں، آئی ایم ایف اور وولٹر بینک جیسے مالیاتی اداروں، امریکا کی ہاروڑ اور اس یونیورسٹیوں اور برطانیہ کے لندن اسکول آف اکنامیکس، اولو بورڈ اور ڈرام یونیورسٹی جیسے علم و دانش کے عظیم الشان مرکزی کی توجہ حاصل کی ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ میں بھی اس نے ثابت طور پر جگہ پائی ہے۔

اس نظام کے لیے مستقبل کے امکانات کے بہتر ہونے کی واضح توقعات ہیں، خصوصاً اگر میں الاقوامی مالیاتی نظام میں عدم استحکام، جوئی الوقت نمایاں ہے، اسی طرح بڑھتا رہا۔ اس سے ہم اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس عدم استحکام کا، نظام میں محض نمائشی تبدیلوں سے ختم کیا جانا مشکل ہے۔ اس کے بجائے نظام میں بہتر مارکیٹ ڈپلین کا متعارف کرایا جانا ضروری ہے اور غیر سودی، نفع اور نقصان میں شرکت کا نظام، اس مقصد کے حصول میں تینی طور پر معاون ہو سکتا ہے۔

واضح طور پر دنیا کے بڑے مذاہب کی جانب سے سود کی ممانعت کے پچھے مضبوط منطقی اور عقلی بنیاد موجود ہے۔ مالیاتی نظام میں اسے شامل کیے جانے سے بہتر ظم و ضبط کے قیام میں مدد ملے گی اور یہ چیز اسے زیادہ صحت مند اور زیادہ مُحکم بنائے گی۔ اگر کوئی بھی حصد بڑھے اور قرض کا تناوب نمایاں طور پر کم ہو جائے، تو امید کی جاسکے گی کہ بین الاقوای مالیاتی منڈیوں میں جس فراری کیفیت کا آج تسلط ہے، اس میں واضح طور پر کمی واقع ہو جائے گی۔ نتیجہ اور بہتر ہو سکتا ہے اگر قرض کو ابتدائی طور پر حقیقی اشیاء و خدمات کی خریداری یا اجارے تک محدود کر دیا جائے۔ اس طرح، قرض کے سے پہنچ پھیلاو کو بہت بڑی حد تک ختم ورنہ کم ضرور کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حصہ نتیجہ صرف مالیاتی عدم استحکام ہی میں کی نہیں، بلکہ وسائل کے بہتر مقاصد کے لیے مختص کیے جانے اور تیز تر معاشی ترقی کی شکل میں نکلے گا۔

ایک اور چیز جس کا اہتمام اسلام نے قرض کے لین دین کو اخاثتوں سے منسلک کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وسائل سے بڑھ کر زندگی بسر کرنے پر پابندی لگانا اور سادہ طرز بودو باش کو فروغ دینا ہے۔ وسائل سے بڑھ کر زندگی بسر کرنے پر عائد کی گئی اس پابندی کو، بچت کو بڑھانے اور سرمایہ کاری کے مقاصد کی خاطر لیے جانے والے قرضوں پر لوگوں کے انحصار کو کم کرنے میں معاون ہوتا چاہیے۔ ایسا ہوتا یقینی طور پر ممکن ہے۔ جاپان نے اپنی ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے اسی انداز میں مالی وسائل مختص کیے ہیں، اور کئی دوسرے ایشیائی نائیگر بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ سادہ طرز زندگی، اس طرح، بچتوں کو بڑھانے اور ملکوں کو بھاری قرضوں کے لین دین کے بغیر اپنی ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے قابل بنانے میں مدد گار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرض کا سلسلہ بالکل نہیں رہ جائے گا۔ ادھار لینے کا سلسلہ جاری رکھے جانے کی ضرورت باقی رہ سکتی ہے۔ لیکن حد سے زیادہ قرض لینے سے، جیسا کہ پاکستان کے معاملے میں ہوتا رہا ہے، گریز کیا جائے گا۔ تاہم پاکستان میں سادہ طرز زندگی کو راجح کرنے کے بجائے ہم غیر ضروری خرچ کو فروغ دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بچت کی شرح انتہائی کم ہے۔

ایک اور مفید چیز، جو اسلامی مالیات کاری اس سب کے ساتھ ساتھ لائے گی، ٹٹے پر پابندی ہے۔ یہ نظام سے پر پابندی کیسے لگائے گا؟ شریعت کے حکم کے تحت اس چیز کی فروخت منوع ہے جو فروخت کرنے والے کی تحویل میں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارت سیلز جو اشک، بیرونی زر مبادله اور اجناس کی منڈیوں کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہیں، منوع ہوں گی۔

ٹٹے پر بنی شارت سیلز میں اشیاء کے لین دین کی نیت نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے خریداری کا ٹٹے یعنی لین دین میں آتا ہے اور درمیانی فرقہ کا تصفیہ کر لیا جاتا ہے۔ مسٹر [جارج] سوروز ۱۹۹۰ء کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں برطانیہ میں زر مبادله کے بھرمان کے دوران ایسا کیا اور ایک بلین پاؤ نڈا اسٹرینگ کا منافع کیا۔ اس کا میابی سے حوصلہ پا کر، اس نے دوسرے سے بازوں کے ساتھ، یہی کچھ مشرق بعید میں کیا اور وہاں کی زر مبادله کی منڈیوں کو غیر م stitching کر دیا۔ ٹٹے پر پابندی مالیاتی منڈیوں کو stitching کرنے میں مدد دے گی۔

یہ ہے وہ سبب جس کی بناء پر دنیا کے بیشتر مذاہب نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن کیا بات اتنی ہی ہے؟ وسائل سے بڑھ کر زندگی بسر کرنا، معاشرے کوئی دوسرے طریقوں سے بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک تو یہ افراط زر کو فروغ دیتا ہے اور یہ افراط از رعم و مغربیوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ وسائل کی پونکہ قلت ہوتی ہے، اس لیے ذرائع آمدنی سے بڑھ کر زندگی بسر کرنے سے تعیشات پر خرچ بڑھتا ہے۔ قرض لینے والے دولت مند لوگ، لازمًا اپنی ضروریات ہی کے لیے نہیں بلکہ اکثر پرتعیش مصارف کے لیے قرض لیتے ہیں۔

حکومتیں بھی لازمی طور پر ترقیاتی مقاصد ہی کے لیے قرض نہیں لیتیں۔ وہ سفید ہاتھی جیسے منصوبوں کے لیے بھی قرض لیتی ہیں۔ پاکستان میں سفید ہاتھی ناپ متعدد منصوبوں کے لیے مالی وسائل قرض لے کر مہیا کیے گئے ہیں۔ وہ اب جان چھڑانے کے لیے اونے پونے داموں پیچے جا رہے ہیں۔ اگر نفع اور نقصان میں شرکت کا نظام ہوتا تو یہ منصوبے پہلے ہی مرحلے میں منظور نہ کی جاتے، بالخصوص جبکہ مطلوبہ ساز و سامان کی فراہمی کے لیے دستیاب وسائل پر حد سے زیادہ دعوے اس

صورت میں کیے جا رہے ہوں کہ خدمات کی قلت پوری طرح ظاہر ہو۔

یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ اسلامی مالیات کاری ابھی اپنی مشائی شکل تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ ابھی عبوری دور میں ہے۔ اسلامی بینک فانسنس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ایکوئی کی شکل میں ہے، جبکہ بہت بڑا اور غالب حصہ قرض کی مالیات کاری پر مشتمل ہے۔ مزید یہ کہ قرض کی مالیات کاری بھی پوری طرح اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہے۔ اسلامی اصولوں پر یعنی قرض کی مالیات کاری میں مالی وسائل فراہم کرنے والا یعنی قرض خواہ بھی نقصان کا خطروہ مول لینے میں ایک حد تک شریک ہوتا ہے۔ اگر نقصان کا خطروہ مول نہ لیا جائے تو نفع میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تاہم بینک نقصان کے خطروے کو قرض لینے والے یا خریدار کی طرف ہی منتقل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔

مسلمان ملکوں میں مرکزی بینکوں کی جانب سے ان بینکوں کو ایسے ضوابط کا پابند بنا�ا جانا چاہیے اور ان کے حوالے سے ان کی گنگرانی کی جانی چاہیے جن کے تحت اسلامی مالیات کاری کی سہولت، اس کے اپنے قواعد کے مطابق مہیا کی جائے۔ جب تک مرکزی بینک اس کام میں پوری دلچسپی نہیں لیں گے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا۔ تاہم افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ملکوں میں مرکزی بینکوں کی ایک بڑی تعداد اسلامی مالیات کاری سے بنیادی طور پر الرجک رہی ہے۔ ان بینکوں کو قواعد کے مطابق چلانے کے لیے انہوں نے کوئی بڑے اقدامات نہیں کیے۔ بینک خطروہ مول لینے سے بچنے اور ایکوئی کی بنیاد پر مالیات کاری سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرست درست نہ کی گئی تو وہ ثرات جن کی صفائح تھیوری دیتی ہے، حاصل نہیں کیے جاسکیں گے۔

- 1: Glick, "Thoughts on the Origins of the Asian Crisis" and Bisignano, "Precarious Credit Equilibria."
- 2: Krugman, "What Happened to Asia?"
- 3: Chang and Velasco, "The Asian Liquidity Crisis" and Radelet and Sachs "The East Asian Financial Crises."
- 4: For these principles see Camdessus, "Interview with IMF Survey" 1 and 7-10.
- 5: IMF, "World Economic Outlook," May 1999, 67.
- 6: BIS, Annual Report 1982, 3.
- 7: IMF, "World Economic Outlook," May 1998, 83.
- 8: Trichet, "Asset Price Bubbles and Monetary Policy," 4.
- 9: Chris, "On Fiscal and Monetary Policies," and Searth, "Bond Financed Fiscal Policy."
- 10: BIS, 1999, 10.
- 11: یہ دھنکے متعدد عوامل کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اس میں تدریجی آفات، درآمد اور برآمد کرنے والے بڑے ملکوں کی پالیسیوں میں تبدیلیاں، نیز سود کی شرخوں یا متعلقہ درآمدات و برآمدات کے نزخوں میں تبدیلیوں کے باعث قرض لینے والے ملکوں کی معیشتیوں میں غیر متوقع انحطاط، سب شامل ہیں۔
- 12: Meltzer, "Asian Problems and the IMF"; Schwartz, "Time to Terminate the ESF and the IMF"; and

Calomiris, "IMF's Imprudent Role."

13: Schwartz, op. cit. and Meltzer, op. cit.

14: Stiglitz, "Dealing with Debt," 58.

15: World Bank, *Policy and Research Bulletin*, 3.

16: IMF, "World Economic Outlook," September 1998, 98.

17: Edwards, "Hedge Funds and Collapse of Long Term Capital Management," 189.

18: *Economist*, "The Risk Business," 21.

19: Edwards, op. cit. 190.

20: Plender, "Western Crony Capitalism."

21: *Economist*, op. cit.

22: Mahmed, "Highwaymen of the Global Economy," C1.

23: BIS, 1999, 108.

24: IMF, "World Economic Outlook and International Capital Markets, 55.

۲۵ : فیدرل ریزرو سٹم کے سابق سربراہ ایلن گرین پسین کی جانب سے یہ بات ان الفاظ میں صاف طور پر تسلیم کی گئی ہے: "ایل ٹی سی ایم کی ناکامی نے منڈیوں کو معطل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کے نتیجے میں فرم سے براہ راست تعلق نہ رکھنے والوں سمیت منڈی کے بہت سے شرکاء کو بھاری نقصان پہنچ سکتا تھا، اور یہ ہم سمیت بہت سی قوموں کی میشتوں کو عملی طور پر کمزور کر سکتا تھا۔" (گرین پسین، "کانگریس میں بیان، کیم اکٹ، ۱۹۹۸ء، ۱۰۳۶)۔

۲۶ : یونیفارز کے اعداد و شمار کتاب نامٹ "Funds for Hedge Funds" کے صفحہ ۷۴ سے

ماغزیہ ہے۔

27: Greenspan, op. cit.

28: IMF, op. cit 51- 53.

۲۹ : بی آئی ایس ۲۰۰۳ء۔ پہنچ آف انٹرنشنل سٹیٹمنٹس ہر تین سال بعد اپریل کے مہینے میں یورونی زر مبادلہ کے انتہام کرتا ہے۔ اپریل ۱۹۸۹ء سے یورونی زر مبادلہ کے کاروبار کا یومیہ جم مسلسل بڑھتا رہا ہے اس کے جب یہ ۱۹۸۹ء کے ۱۳۹۰ بلین ڈالر کے مقابلے میں ۱۲۰۰ بلین ڈالر رہا۔ ۲۰۰۱ء میں اس اخاطط کے بڑے اسباب میں بی آئی ایس کے مطابق، یورو کا متعارف کرایا جانا، انٹرینک مارکیٹ میں الیکٹر انک بینگ کا بڑھتا ہوا حصہ، اور پہنچ کی صنعت (BIS, "Central bank survey of foreign exchange and derivatives market activity in April 2001,"

1. See also similar news releases for October 1998 and September 2004 at <http://www.bis.org/press>).

۳۰ : عالمی تجارت (برآمدات+ درآمدات) اپریل ۱۹۸۹ء کے ۳۹۹ بلین ڈالر سے بڑھ کر اپریل ۲۰۰۳ء میں ۷۳۸۹ بلین ڈالر ہو گئی، (IMF, "International Financial Statistics," various monthly issues and yearbooks for 2000 and 2004) ان دو برسوں میں اپریل کے مہینے کے دوران عالمی تجارت کی یومیہ اوسط قدر بالترتیب ۶۱ بلین ڈالر اور ۴۷۹ بلین ڈالر رہی۔

۳۱ : اپریل ۲۰۰۱ء میں یومیہ کاروبار میں ہونے والی کمی، جس کی نشاندہی حاشیہ ۲۹ میں کی گئی ہے، اسپاٹ مارکیٹوں میں بہت مشہور ہوئی تھی، جس میں یومیہ کاروبار ۵۲۸ بلین ڈالر سے گر کر ۳۸۷ بلین ڈالر رہ گیا تھا۔ فارورڈز میں تجارت ۱۲۸ بلین ڈالر سے بڑھ کر ۱۳۳ بلین ڈالر ہوئی تھی جبکہ خراب صورت حال میں یہ ۳۲۷ بلین ڈالر سے گھٹ کر ۶۵۶ بلین ڈالر تک نیچے آگئی تھی۔

(BIS, op. cit. and Table 1 on page.3)

- 32: Crockett, "Pillar to the Bolster Global Finance," 3.
- 33: Greenspan, "Globalization of Finance,"3.
- 34: See the address entitled "Imbalances in the US Economy" by Donald Kohn, member of the Board of Governors of the US Federal Reserve System, on 22 April 2005 at the 15th Annual Hyman Minsky Conference at the Levy Economic Institute of Bard College, Annandale in Huston, New York.
- 35: Kohn, op. cit., 1-2.
- 36: *Economist*, "America's Economy," 87.
- 37: Kohn, op. cit.,1.
- 38: Edwards, op. cit., Calomiris,op. cit. and Stiglitz, "Boats, Planes and Capital Flows."
- 39: Edwards, op. cit., 1919.
- 40: Meltzre, op. cit. Calomiris, op. cit. and Yeager, "How to Avoid International Financial Crises."
- 41: IMF, "World Economic Outlook," May 1998, 82.
- 42: Hicks, "Limited Liability," 14.
- 43: Rogoff. "International Institutions for reducing Global Financial Instability," 40.